

igbagbo ododo ati igba aforinjin
eṣe wọn ni aye ti o jinna.

53. Bẹ si ni nwon ti ṣe aigbagbo
si I ṣiwaju, nwon si nsọ abusọ ọrọ
si ohun ti o pamọ lati aye ti o
jinna.

54. A o si fi gàga si arin wọn ati
ohun ti nwon nṣe oju kokoro rẹ
gẹgẹbi a ti ṣe fun awọn ẹgbẹ wọn ni
ṣiwaju. Dajudaju awọn jẹ ẹniti o
mbẹ ninu iyemeji ti o ruju.

(35) Suratu - Fātiri

*Ni orukọ Ọlọhun Aṣakẹ aiyẹ,
Aṣakẹ ọrun.*

1. Ọpẹ ni fun Ọlọhun Olupileḍa
awọn sanma ati ilẹ, Oluṣe Malaika
ni awọn ojiṣe kan ti nwon ni iyẹ
meji ati męta ati męrin. A ma ṣe
alekun ohun ti O ba fẹ ninu ẹda.
Dajudaju Ọlọhun ni Alagbara lori
gbogbo nkan.

2. Ohunkohun ti Ọlọhun ba ṣi
ona rẹ silẹ fun awọn enia niti ikẹ,
kò si ohun ti o le da a duro, atipe
ohunkohun ti (Ọlọhun) ba mudani
kòsi ẹniti o le mu u wa lẹhin Rẹ.
Atipe On ni Alagbara, Ọlọgbon.

3. Ẽnyin enia, ẹ ma ranti idera ti
Ọlọhun ti o mbẹ lori nyin, nṣe
oluda kan ha mbẹ yatọ si Ọlọhun ti
o le ma pese fun nyin lati sanma ati
ilẹ? Kòsi ọlọhun miran ayafi On.

مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْدُونَ

بِالْقَائِمِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٤﴾

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاءِهِمْ

مِنْ قَبْلِ إِيْتِهِمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ ﴿٥٥﴾



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِيَّةِ

رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنِحَةٍ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ بَزِيدٍ فِي الْخَلْقِ

مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا

وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۗ

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

يَتْلُوهَا النَّاسُ أَذْكَرُ وَأُنْعَمَتِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقِي

غَيْرَ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ

إِلَّا هُوَ فَادْفَعُوا نُفُوكُمْ ﴿٣﴾

Èşe ti ę fi nşeri (Kuro ni bi imo Qlõhun ọba yin lọkan ati ijõsin fun U)?

4. Bi nwõn ba si pe ọ ni opurọ, dajudaju nwõn ti pe awõn ojışę ni opurọ şiwaju rẹ. Atipe ọdọ Qlõhun ni a o da gbogbo awõn ọrọ padasi.

5. Ẽnyin enia, dajudaju adehun ti Qlõhun jẹ otitọ, ę maşe jẹki igbesi aiye tan nyin jẹ. Atipe ki ę maşe jẹ ki atannijẹ tan nyin jẹ si Qlõhun.

6. Dajudaju ẹşu jẹ ọta kan fun nyin, nitorina ki ẹnyin na mu u ni ọta. Dajudaju on a ma pe awõn ijọ rẹ ki nwõn le ba jẹ ọkan ninu erò ina jonijoni.

7. Awõn ẹniti nwõn şe aigbagbo, iyà ti o le gidigidi mbẹ fun wõn. Atipe awõn ẹniti nwõn gbagbo ni ododo ti nwõn si şe işę rere, aforiji ati ẹsan ti o tobi mbẹ fun wõn.

8. Njẹ ẹniti a şe işę buru rẹ ni oşọ fun u ti o si nwo o si işę rere? Nitorina dajudaju Qlõhun ma nfi ẹniti O ba fẹ silẹ ninu işina A si ma fi ẹniti O ba fẹ mọna, nitorina ma lo ẹmi rẹ danu niti ibanujẹ lori wõn. Dajudaju Qlõhun na ti mọ ohun tin wõn nşe nişę.

9. Atipe Qlõhun ni Ẽniti nfi awõn atẹgun ranşę ti A fi ntu (dari rẹ) awõn ẹşu ojo ka A si ma nfi

وَأَن يَكذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَتْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ
وَاللَّهُ لِيُرجِعَ الْأُمُورَ ﴿٤﴾

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِن وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَلَا تَعْرَنُّكُمْ الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا وَلَا يَغْرَنُّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٥﴾

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا
حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٦﴾

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِن لَّوَّ يَضِلُّ
مِن بَشَاءٍ وَهَدَىٰ مِّن بَشَاءٍ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ
عَلَيْهِمْ حَسْرَتٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٨﴾

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُبْرِئُ السَّمَاءَ فَمَا يَسْفِطُنَّهُ إِلَىٰ بَلَدٍ

omi na fun ilu kan ti o ti kú mu A si ma fi ji ilè lèhin ikù rẹ̀. Bayi na ni igbende.

10. Ẹ̀niti o ba nfẹ̀ titobi, (ki o mọ̀ pe) ti Ọ̀lọ̀hun ni gbogbo titobi. Ọ̀dọ̀ Rẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ti o dara ngunkè lọ̀ isẹ̀ rere asi maa gbe (ọ̀rọ̀ ti o dara) lọ̀ si oke (lọ̀dọ̀ Ọ̀lọ̀hun). Atipe awọ̀n ti nwòn npete buburu, iyà ti o le mbẹ̀ fun wòn atipe ete awọ̀n elewònyi ni yio parun.

11. Atipe Ọ̀lọ̀hun lo ẹ̀da nyin lati inu iyẹ̀pẹ̀, lẹ̀hinna lati inu omi gbọ̀lọ̀gbọ̀lọ̀, lẹ̀hinna O ẹ̀da nyin ni takọ̀tabo, atipe obirin kan kò ni ni oyun bẹ̀ si ni kò ni bi ọ̀mọ̀ ayafi ki (Ọ̀lọ̀hun) mọ̀ nipa rẹ̀. Atipe ẹ̀mi ẹ̀nikan kò ni gun bẹ̀ni ẹ̀mi kan ko ni kuru ayafi ki o ma bẹ̀ ninu tirà kan. Dajudaju eleyi jẹ̀ irọ̀run fun Ọ̀lọ̀hun.

12. Atipe awọ̀n ibu odo meji kò le ba ara wòn dọ̀gba: eyi jẹ̀ omi tutu ti o dun ti o rọ̀run lati mu; atipe eleyi jẹ̀ omi iyọ̀ ti o mu'ro. Atipe lati inu gbogbo wòn ni ẹ̀ ti nẹ̀jẹ̀ awọ̀n ẹ̀ran tutu (Eja), ẹ̀ si tun nmu jade ohun oşo ti ẹ̀ nlo. Irẹ̀ yio si tun ri awọ̀n ọ̀kọ̀ ti o nlà omi lọ̀ ninu rẹ̀, ki ẹ̀ le ma wa ninu ore ajulọ̀ Rẹ̀ ki ẹ̀ si le ba ẹ̀ ọ̀pẹ̀.

13. On mu oru ko sinu oşan, A si ma fi oşan na ko sinu oru, O si tun tẹ̀ ọ̀rùn ati oşupa lori ba, ọ̀kọ̀kan

مَاتَتْ فَأَحْيَيْنَاهُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ
النُّشُورُ ﴿١٠﴾

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ
الْكَبِيرُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ
يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
وَمَكْرُهُمْ أُولَئِكَ هُوَ يُبَوِّرُ ﴿١١﴾

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ
أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ
وَمَا يَعْمَرُ مِنَ مَعْمَرٍ وَلَا يَقْصُصُ مِنْ عُمُرٍ
إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٢﴾

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ سَائِفٌ
شَرَابُهُ، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمَنْ كُلَّ تَأْكُلُونَ
لِحِمًا طَبْرِيًّا أُولَئِكَ يُخْرَجُونَ مِنْهُ تَلْبَسُونَهَا
وَتَرَى الْفَلَكَ فِيهِ مَوَازِلَ تَبْنَعُونَ مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٣﴾

يُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ

wɔn nrin fun igba kan ti a yan. Eyi ni Ɔlɔhun Oluwa nyin; ti Rẹ ni ijɔba. Atipe awɔn nkan ti ɛ nkepe lẹhin Rẹ nwɔn kò ni agbara lori ẹpo horo dabinu kan.

14. Bi ɛnyin ba pe wɔn, nwɔn kò le gbɔ ipe nyin rara; bi nwɔn tilẹ gbɔ, nwɔn kò ni da nyin lohun. Ti o ba si di ɔjɔ ajinde nwɔn yio kò fifi wɔn ɛe orogun ti ɛ fi wɔn ɛe (pẹlu Ɔlɔhun). Bẹ si ni kòsi ɛniti o le fun ɔ ni iro gẹgẹbi ti (Ɔlɔhun) Alamotan.

15. ɛnyin enia, alaini ni ɛ jẹ si Ɔlɔhun. Ɔlɔhun si ni Ɔlɔrɔ Ɔba-Ɔlɔpẹ.

16. Bi O ba fẹ yio mu nyin lɔ, yio si mu ɛda tutun wa.

17. Atipe eyini kò nira fun Ɔlɔhun.

18. Atipe olu ru ɛru ɛɛɛ kan kò ni le ru ɛru ɛɛɛ ti ɛlomiran. Ti ɛniti ɛru pa ba pe ɛlomiran si gbigbe rẹ, kò ni le gbe nkankan ninu rẹ bi o fẹ ki o jẹ ɛbi ti o sunmọ. (Sugbɔn) iwɔ yio kan le se kilɔ kilɔ fun awɔn ɛniti nwɔn nbẹru Oluwa wɔn ni ipamọ ti nwɔn si gbe irun duro. Atipe ɛniti o ba fọ ara rẹ mọ dajudaju o fọ ɔ mọ fun ori ara rẹ ni, ɔdɔ Ɔlɔhun ni apadasi.

19. Atipe afoju ati ɛniti o riran nwɔn kò le dɔgba.

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَوْمٍ تَجْرِي
لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَٰلِكُمْ اللَّهُ لِرَبِّكُمْ لَهُ الْمَلَكُ
وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ
مِنْ قَطْمِيرٍ ﴿١٣﴾

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَا يُرِيبُوا
مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُكْفَرُونَ
بِشْرِكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِنْهُ خَيْرٌ ﴿١٤﴾

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ
وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾

إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾

وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٧﴾

وَلَا تَنْزِيلٌ وَارِزَةٌ وَذَٰلِكَ آخِرُهَا وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ
إِلَىٰ جَمَلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
إِنَّمَا نُذِرُ الَّذِينَ يُجْحَشُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ
وَأَفْأَمُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَرَكُهَا فَاِنَّمَا بُرِّئَ
لِنَفْسِهِ. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿١٩﴾

20. Atipe okunkun ati imọlẹ (nwọn kò le dọgba).

وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿٦٥﴾

21. Atipe ibōji ati òrùn yanyan (nwọn kò le dọgba).

وَلَا الظُّلُّ وَلَا الخُرُوءُ ﴿٦٦﴾

22. Atipe awọn alāye enia ati awọn oku enia nwọn kò le dọgba. Dajudaju Qlọhun lo nfun ẹniti O fẹ ni ọrọ gbọ, atipe irẹ kò le fun ẹniti o wa ninu sare ni ọrọ gbọ.

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ
وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ ﴿٦٧﴾

23. Kò si ohun ti irẹ jẹ ju oluṣe ikilọ lọ.

إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٦٨﴾

24. Dajudaju A ran ọ niṣẹ pẹlu ododo ni olufunni niro idunnu ati oluṣe ikilọ. Kòsi iran kan ti oluṣe ikilọ kò ti rekoja larin wọn.

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ
إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٦٩﴾

25. Atipe ti nwọn ba pe ọ ni opurọ, dajudaju awọn ẹniti o ti siwaju wọn tipe (awọn ojiṣẹ wọn) ni opurọ, (nigbati) awọn ojiṣẹ wọn wa ba wọn pẹlu alaye ti o yanju ati awọn tira ati akọsilẹ ti o ni imọlẹ.

وَإِنْ يَكْذِبُونَكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ
الْمُنِيرِ ﴿٧٠﴾

26. Lẹhinna Mo mu awọn ẹniti nwọn ṣe aigbagbọ, nitorina bawo ni iyà ti Mo fi jẹ awọn ẹniti o ṣe atako ọrọ Mi ti le koko to?

ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٧١﴾

27. Irẹ kò ha ri (i) ni pe dajudaju Qlọhun l'ò sọ omi kalẹ lati sanma, nigbana Awa si fi mu awọn eso jade ti nwọn jẹ orisiri si ni awọ? Ati pe ninu awọn oke oju-ona wa ni funfun ati pupa ti àwọ wọn yatọ si ara wọn ati awọn dudu kirikiri.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ
ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ
وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَرَبِيدٌ سُودٌ ﴿٧٢﴾

28. Atipe o wa ninu awọn enia ati awọn ẹranko ati awọn ẹran ẹlẹṣe-merin ti àwò wọn yatọ si ara wọn gẹgẹbi awọn eleyi. Şugbọn awọn ti o nberu Qlọhun nikan ninu awọn ẹrusin Rẹ ni awọn oni mimò. Dajudaju Qlọhun ni alagbara, Alaforiji.

29. Dajudaju awọn ẹniti nwọn nke tirà Qlọhun ti nwọn si gbe irun duro ti nwọn si na ninu ohun ti A pese fun wọn ni kòkò ati ni gbangba, nwọn nse ireti òwò kan ti kò ni parun.

30. Ki O le ṣe aṣepe ẹsan wọn fun wọn ki O si le ṣe alekun fun wọn ninu òre-ajulọ Rẹ. Dajudaju On ni Alaforiji, Oludupẹ lọpọlọpọ.

31. Atipe ohun ti A fi ranṣẹ si o ninu tira nã on ni ododo ti o pe awọn (tira) ti o siwaju rẹ lododo. Dajudaju Qlọhun ni Alamọtan, Oluriran nipa awọn ẹru Rẹ.

32. Lẹhinna A jẹ tirà na logun fun awọn ẹniti A ṣà ẹṣa ninu awọn ẹrusin Wa: ẹniti o jẹ alabosi fun ori ara rẹ wà ninu wọn, oluṣe dede wà ninu wọn, oluṣe yarayara si (iṣẹ) rere wà ninu wọn pẹlu iyọda Qlọhun. eyini, on ni òreajulọ ti o tobi.

33. Awọn oḡba-idẹra ibugbe ti o wa titi, nwọn yio wọ inu rẹ, a o ṣe

وَمِنَ النَّاسِ وَالْذَوَابِّ وَالْأَنْعَامِ
مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ
مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٣٨﴾

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ نَّسُوْرَ ﴿٣٩﴾

لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّنْ فَضْلِهِ
إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٤٠﴾

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بَعِيدٌ
لِّخَيْرٍ بَصِيرٌ ﴿٤١﴾

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا
فَمَنْهُمْ مَّنْ طَرًّا لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ
سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذِنَ اللَّهُ ذَلِكَ
هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٤٢﴾

جَنَّتْ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُجَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ

won loşo awon kerewu wura ati okuta owó iyebiye ninu rẹ, atipe aşo ti nwon yio ma wò ninu rẹ şeda-alari.

34. Nwon yio si sope: Ope ni fun Olohun ti Ó mu ibanjuje kuro fun wa. Dajudaju Oluwa wa ni Alaforiji, Oludupe loşoloşo.

35. Eniti O so wa kalẹ si ile ibugbe ti yio ma wa titi; ninu òre-ajulo Rẹ, ti wahala kò ni kan wa ninu rẹ ti a kò si ni karẹ ninu rẹ.

36. Awon eniti nwon si se aigbagbo, ina Jahannama mbẹ fun won; a kò ni pin emi won depo ti nwon yio fi ku, a kò si ni gbe ninu iyà bẹ fuyẹ fun won. Bayi ni A o san awon alaimore ni ẹsan.

37. Atipe nwon yio ma wa iranloşo ninu rẹ (won yio sope): Oluwa wa mu wa jade, ki awa ba le se işe rere ti o yatọ si iru eyi ti a ti se ri. Nje A kò ti fun nyin ni emi lo ni asiko ti eniti yio gba iranti ti fi gba iranti Oluše kilokilo si wa ba nyin nitorina ẹ to iyà wò; kò ni si alatilehin fun awon alabosi.

38. Dajudaju Olohun ni Onimimò ohun ti o pamọ si sanma ati ile. Dajudaju On ni Onimimò nipa ohun ti o wà ninu igbaiya.

39. On ni Eniti O se nyin ni arole ni orile. Eniti o se aigbagbo,

مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٦﴾

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ

إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٧﴾

الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَآ يَسْتَأْذِنُ

فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا الْغُوبُ ﴿٣٨﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ

فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا الْغُوبُ ﴿٣٩﴾

فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا الْغُوبُ ﴿٣٩﴾

وَهُمْ يَبْصُرُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا

غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۖ وَلَمْ نُعَمِّرْكُم

مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ ۖ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ

فَذُوقُوا مَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٤٠﴾

إِذْ رَجَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

إِنَّهُ عَلَيْهِمْ بَدَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤١﴾

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَلْقَ فِي الْأَرْضِ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ

aigbagbọ rẹ wa lori rẹ. Aigbagbọ wọn kò le ẹ alekun fun awọn alaigbagbọ ni ọdọ Oluwa wọn ayafi ibinu; aigbagbọ wọn kò le ẹ alekun fun awọn alaigbagbọ ayafi àdanù.

40. Sope: Njẹ ẹnyin ri ohun ti ẹnyin fi nṣe orogun si Ọlọhun awọn ti ẹnyin nkepe lẹhin Ọlọhun? Njẹ ẹ le fi han mi kini ohun ti nwọn da ni ẹda ni orilẹ, tabi nwọn ni ipin ninu sanma? Tabi A ti fun wọn ni Tirà kan ti nwọn wa lori alaye nipa rẹ? Bẹkọ, apakan awọn alabosi nwọn ko se ileri kankan fun apakeji ayafi itanjẹ.

41. Dajudaju Ọlọhun lo mu sanma ati ilẹ duro ẹinṣin ti nwọn kò fi yẹ kuro (ni aye wọn). Ti nwọn ba si yẹ kuro (ni aye wọn), kò si ẹnikan ti o le mu wọn duro lẹhin Rẹ. Dajudaju On jẹ Onisuru, Oludarijini.

42. Atipe nwọn fi Ọlọhun bura ni ibura wọn ti o le julọ pe ti olukilọ kan ba wa ba wọn, nwọn o tona ju iran-kiran lọ. ẹugbọn nigbati olukilọ wa ba wọn, kò le wọn kun ni nkankan afi sisa ni nwọn nsa (fun u).

43. Tigberaga-tigberaga lori ilẹ ati ipete buburu, atipe ete buburu kò ni yi ẹnikan ka afi ẹniti o ẹ e.

كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٥﴾

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنَّهُمْ يَعْبُدُونَ الظُّلُمَاتِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِغْوَاءٌ ﴿٣٦﴾

﴿٣٦﴾ إِنَّ اللَّهَ يُصِيبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَسْكَبْتُمَا مِنْ بَحْرَيْنِ عِندَهُ إِنَّهُنَّ لَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٣٧﴾

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَىٰ الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَأْرَاهُمْ بِالْأَنْفُسِ ﴿٣٨﴾

أَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السُّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السُّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سِنَّتَ

Nitorina nwon kò reti nkan miran ayafi işesi (Qlòhun pèlu) awon ɛni akokò. Irẹ̀ kò le ri iparọ̀ ninu işesi ti Qlòhun, atipe irẹ̀ kò le ri iyipada ninu işesi ti Qlòhun.

44. Abi awon kò yio ha rin kiri lori ilẹ̀ ki nwon ri bi igbẹhin awon ti o šiwaju won ti ri. Ti nwon ni agbara ju awon (eyi) lẹ; kò si ohun ti o le tayọ Qlòhun ni sanma tabi ni ilẹ̀. Dajudaju On jẹ Olumọ, Alagbara.

45. Bi o ba şe pe Qlòhun yio mu awon enia fun işe-ẹşe won ni, ko ni şeku ẹda kan lori rẹ. Şugbon O nlo won lara di akoko kan ti a sọ; nitorina ti akoko won ba de, dajudaju Qlòhun jẹ Oluriran nipa awon ẹrusin Rẹ.

(36) Suratu - Yāsin

*Ni orukọ Qlòhun Ajọkẹ aiyẹ,
Aşakẹ ọrun.*

1. Yā, Sīn (Qlòhun ni O mọ ohun ti O gbal'erò pèlu awon harafi yi).

2. Al-Kurani ti o kun fun oğbon ni Mo fi bura.

3. Dajudaju irẹ̀ jẹ ọkan ninu awon ojişe.

4. Ti o wa ni oju ọna ti o to.

أَوَّلَٰئِكَ فَلَئِن نَّجِدْ لِسُدَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَٰكِن نَّجِدْ لِسُدَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٣٦﴾

أَوَّلَٰئِكَ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٣٧﴾

وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهِم مِّن دَآئِبَةٍ وَكَانَ يُؤَخِّرُهُم إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فِإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَآتَ ٱللَّهُ كَآنَ يُعِيدُهُمْ بَصِيرًا ﴿٣٨﴾



بِسْمِ ٱللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یس ﴿٣٦﴾

وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْكَذِیْبِ ﴿٣٧﴾

إِنَّا كَلَّمْنَا ٱلْمُرْسَلِیْنَ ﴿٣٨﴾

عَلَىٰ صُرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ﴿٣٩﴾